

# Maulana Azad National Urdu University

Master of Commerce : I Semester Examination, February 2022

Paper : MMCM102CCT : Managerial Accounting (MA)

پرچہ : مینجریل اکاؤنٹنگ

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات دو حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 08 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔ (8 x 5 = 40 Marks)
2. حصہ دوم میں 05 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (10x3 = 30 Marks)

## حصہ اول

1. BEP نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ وضاحت کیجیے۔
2. انتظامی (Management) اور مالیاتی (Financial) اکاؤنٹنگ کے درمیان امتیاز کیجیے۔
3. حاشیائی (Marginal) لاگت کی اہمیت اور خصوصیات بیان کیجیے۔
4. Controllable اور Uncontrollable لاگت کیا ہوتا ہے؟
5. Flexible Budget سے کیا مراد ہے؟ اس قسم کے بجٹ کو لاگو کرنا کب مناسب ہوتا ہے؟
6. XYZ لمپیٹڈ 4 قسم کے مصنوعات تیار اور فروخت کرتا ہے۔ Sales Mix اور Variable لاگت درجہ ذیل ہیں۔

Product	Sales per Month	VC Ratio & Sales
A	2,00,000	50%
B	1,50,000	50%
C	1,00,000	75%
D	2,50,000	40%

7. اگر کل مستقل لاگت (Fixed Cost) 1,50,000 روپے ہے تو BEP کیا ہوگا؟  
اگر X Ltd کی کل مستقل لاگت 5,00,000 روپے ہے۔ Margin of Safety کی شرح 37.5 فیصد دیا گیا ہے اور P/V Ratio 40 فیصد ہے۔ درج ذیل کو محسوب کیجیے۔

BES (i)

Total Sales (ii)

Total Variable Cost (iii)

Profit (iv)

New MoS if sales increased by 5% (v)

8. درج ذیل مواد سے MPV، MCV اور MUV کو محسوب کریں۔

Standard			Actual	
Material	Quantity	Price	Quantity	Price
A	80	20	90	18
B	120	30	110	34

Standard Loss 5% of Input i.e. A and B

9. Fund Flow گوشوارہ پر نوٹ لکھیے۔

10. Amex لمیٹڈ تین (3) اشیاء تیار اور فروخت کرتی ہے۔ درج ذیل معلومات کی مدد سے Direct Material Usage Budget تیار کیجیے۔

Production (in Units)

Product A = 20,000

Product B = 30,000

Product C = 40,000

Quantity of Raw Materials use in each unit produced

Product	Raw Material (Kg)		
	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>
A	3	2	1
B	4	2	3
C	3	3	3
Price Per Kg	5	4	3

حصہ دوم

11. ذیل کی تفصیلات کی مدد سے Cashflow گوشوارہ تیار کیجیے۔

Liabilities	2019	2020	Assest	2019	2020
Equity Share Capital	3,00,000	4,00,000	Goodwill	1,15,000	90,000
10& Pref Share Capital	1,50,000	1,00,000	Building	2,00,000	1,70,000
General Resume	40,000	70,000	Plant	80,000	2,00,000
Profit and Loss A/c	30,000	48,000	Debtors	1,70,000	2,00,000
Prepared Dividend	42,000	50,000	Stock	77,000	1,09,000
Creditors	55,000	83,000	B/R	20,000	30,000
Bills Payable	20,000	16,000	Cash in Hand	15,000	18,000
Provision for Tax	40,000	50,000			
	6,77,000	8,17,000		6,77,000	8,17,000

Additional Information:

i) Depreciation on Plant Rs. 10,000

(ii) Gain on Sale of building Rs. 20,000

12. ذیل کے تفصیلات کی مدد سے جنوری، فروری اور مارچ کے مہینوں کا Cash Budget تیار کیجیے۔

Particulars	November	December	January	February	March
Sales	2,00,000	2,50,000	3,00,000	3,00,000	4,00,000
Purchase	50,000	80,000	1,10,000	1,20,000	1,30,000
Wages	20,000	15,000	15,000	30,000	35,000
Office Expenses	10,000	8,000	12,000	15,000	12,000
Selling Expenses	2,000	6,000	6,000	8,000	10,000

Information:

- 80% of sales are on credit basis. Time given to debtors is 2 months
- Credit period allowed by creditors are 1 month.
- Wages are paid after 1 month.
- All other expenses are paid after 1 month.

13. درج ذیل معلومات سے حل کیجیے۔

- Marginal cost of product X and Y
- Contribution per unit
- Profit from each of suggested sales mixture and recommend which sales mix should be adopted.

Particulars	X per units Cost	Y per unit cost
Direct Material	10	8.50
Direct Wages	3	2
OH Variable	100% of Direct Wages	100% of Direct Wages
Selling Price	20.50	14.50
Fixed Expenses Total	800	

Suggested Salex Mix

- 100 units of X and 200 units of Y
- 150 units of X and 150 units of Y
- 200 units of X and 100 units of Y

14. ذیل کی تفصیلات کی مدد سے درج ذیل کو محسوب کیجیے۔

- Labour Cost Variance
- Labour Rate Variance
- Labour Efficiency Variance
- Labour Idle Variance

Information:

Stand labour hour for a month	=	4,000 hours
Standard wage rate	=	Rs. 2.25 per hour
No of labour employed	=	30
Average working days in month	=	25
No. of hours per day	=	7 hours
Total wage paid in a month	=	13,125
Idle time due to power failure	=	100 hours

15. ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیے۔

Sales Budget (iii)

Contribution (ii)

Historical Cost (i)

